



## سوال

(375) فرشتوں کی بابت سوال

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہمیں ان فرشتوں کے متعلق بتائیے جو انسان کی زندگی میں اس کے اعمال کا ریکارڈ تیار کرنے پر مامور ہوتے ہیں۔ جو (رَقِیبٌ) اور (عَنیْدٌ) کے نام سے مذکورہ ہیں۔ جب انسان فوت ہوتا ہے تو کیا اس پر مقرر فرشتے بھی فوت ہو جاتے ہیں؟ یا انسان کے وفات کے بعد وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

فرشتوں کے حالات و معاملات کا تعلق غیبی امور سے ہے۔ ان کا علم ہمیں صرف قرآن و حدیث سے ہو سکتا ہے اور قرآن و حدیث میں اس قسم کی کوئی صراحت نہیں کہ انسان کی نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے فرشتے انسانی موت کے وقت مر جاتے ہیں نہ کوئی ایسی صراحت موجود ہے کہ وہ زندہ رہتے ہیں اور نہ یہ کہ ان کا ٹھکانا کہاں ہوتا ہے؟ یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، ہمیں ان امور کے متعلق کوئی خاص عقیدہ رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا نہ ان کے ساتھ کسی عمل کا تعلق ہے۔ لہذا اس قسم کے سوالات کرنا فضول ہے۔ لہذا ہم سائل کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کی چیزوں میں نہ پڑے جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور ان چیزوں کے متعلق سوال کیا کرے جن سے اس کو اور تمام مسلمانوں کو دین اور دنیا میں فائدہ پہنچے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ دار السلام

ج 1

محدث فتویٰ